

*Sūrat-ul-Baqarah*  
Verse (1-8)

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

الْبَقَرَةُ	سُورَةُ
گئے	درجہ، بزرگی، مکمل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾			
اللّٰہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔			
الرَّحِيْمِ	الرَّحْمٰنِ	اللّٰهُ	بِسْمِ
(اور) رحیم ہے	(جو) رحمن ہے	اللّٰہ کے	ساتھ نام کے

الْمَ
أَنَا اللّٰهُ أَعْلَمُ: میں اللّٰہ سب سے زیادہ جانے والا ہوں۔
الْمَ
الف - لام - میم

ذِلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

یہ ”وہ“ کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت دینے والی ہے متقویوں کو۔

ذِلِكَ	الْكِتَبُ	لَا	رَيْبَ	فِيهِ	هُدًى	لِّلْمُتَّقِينَ
یہ	(کامل) کتاب ہے	نہیں	کوئی شک (کی بات)	جس میں	ہدایت ہے	متقویوں کے لیے

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْرِبُونَ الصَّلَاةَ

جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں

الَّذِينَ	يُؤْمِنُونَ	وَ	بِالْغَيْبِ	يُقْرِبُونَ	الصَّلَاةَ
وہ جو کے	ایمان لاتے ہیں	اور	غیب پر	قائم کرتے ہیں	نماز

وَمِنَّا رَّزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

وَ	مِنَّا	رَزَقْنَاهُمْ	يُنْفِقُونَ
اور	اس سے جو	دیا ہم نے ان کو	خرچ کرتے ہیں

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اُتارا گیا

إِلَيْكَ	أُنْزِلَ	بِهَا	يُؤْمِنُونَ	الَّذِينَ	وَ
تیری طرف	اُتارا گیا	اس پر جو	ایمان لاتے ہیں	وہ جو کے	اور

وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٥﴾

اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اُتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

هُمْ يُوقِنُونَ	بِالْآخِرَةِ	وَ	مِنْ قَبْلِكَ	أُنْزِلَ	مَا	وَ
وہ یقین رکھتے ہیں	آخرت پر	اور	پہلے تجھ سے	اُتارا گیا	جو	اور

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔

هُمُ الْمُفْلِحُونَ	أُولَئِكَ	وَ	مِنْ رَّبِّهِمْ	عَلَى هُدًى	أُولَئِكَ
کامیاب ہونے والے ہیں	یہ لوگ ہی	اور	اپنے رب کی	ہدایت پر ہیں	یہ لوگ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ دُرُّتَهُمْ

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا (اس حال میں کہ) برابر ہے اُن پر خواہ تو انہیں ڈرائے

إِنَّ	الَّذِينَ	كَفَرُوا	سَوَاءٌ	عَلَيْهِمْ	إِنَّ دُرُّتَهُمْ
یقیناً	جن لوگوں نے	کفر کیا	برابر ہے	اُن پر	خواہ ڈرایا تو نے اُن کو

أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

یانہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

أَمْ	لَمْ	تُنْذِرُهُمْ	لَا	يُؤْمِنُونَ
یا	نہ	ڈرایا تو نے اُن کو	نہیں	ایمان لاتے

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ

اللَّهُ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے اور ان کی شنوائی پر بھی۔ اور

خَتَمَ	اللَّهُ	عَلَى سَمْعِهِمْ	وَ	عَلَى قُلُوبِهِمْ	وَ	عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ
مُہر کر دی	اللَّهُ نے	دلوں پر ان کے	اور	کان پر ان کے	اور	او

رَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۝

ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور ان کے لئے بڑا عذاب (مقدار) ہے۔

عَظِيمٌ	عَذَابٌ	لَهُمْ	وَ	غِشَاوَةً۝	عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ	عَظِيمٌ
بڑا	عذاب ہے	ان کے لیے	اور	پردہ ہے	آنکھوں پر ان کی	بڑا